

تحرير : الدكتور محمد عجاج الخطيب
ترجمہ : جناب محمد مسعود عبدہ

السماء و صفاتِ باری تعالیٰ

”اسماء اللہ الحسنی“ کے معانی

”**المحب**“ بوجو پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے — اور وہی اللہ تو جو دعاوں کو شرفِ قبولیت بخشتتا اور سوال کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے — اللہ رب العزت نے اپنی اس صفت کو اپنے پائیزہ کلام قرآن مجید میں بڑے شاندار لفظوں میں بیان فرمایا ہے :

”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادٍ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ طُرِحْبَطْ طُرِحْبَطْ دَعْوَةٌ
 الْمَدْعَى إِذَا دَعَاهُنِ فَلَيَسْتَهِبُوا إِنَّ وَلِيُؤْمِنُوا إِلَيْنَا لَعْلَمُنَا
 يَرْسُدُونَ“ رالبقرة : ۱۸۶

”اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرمادیجئے کہ میں قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا و قبول کرتا ہوں — تو انہیں جاہیز کہ میرے حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں“

نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بنی حضرت صالحؑ کے خطاب کا ذکر کرتے ہوئے، جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا، ارشاد فرمایا :

”وَإِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ فَلَمْ يُحِبِّبْ“ —

”میرا رب قریب رحمی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا (رحمی)“

فاصنی ابو عبد اللہ الحسینی فرماتے ہیں :

”دکش و بیشتر اس اسم (رحمی) کو تہما نہیں بولا جاتا۔ مثلاً یا تو کہا جاتا ہے :

”القریب المحب“ (قریب، دعاوں کو قبول فرمانے والا) — یا
کہا جاتا ہے: ”محب الدعاء!“ (دعاوں کو شرف قبولیت بخشنے والا)
اور یا کہا جاتا ہے: ”محب دعوة المضطربين“ (بے قراروں کی
دعاؤں کو قبول فرمانے والا)۔

معنی اس کا یہ ہے کہ جو اپنے سائل کو، جو چاہتا ہے، عطا فرماتا ہے۔
اور کوئی دوسرا اس پر قادر نہیں۔ (الاساء والصفات ص ۶۰)

اللہ سے حمایۃ و تعالیٰ اپنے کسی پکار نے والے کو نامراد نہیں لوٹاتے اور نہ ہی انہیں
کوئی چیز اپنی مخلوق سے غافل کر سکتی ہے۔ وہی دعاوں کو قبول فرمانے والے،
عطائے عظیم کے مالک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”اتَّ امْلَهُ تَعَالَى لِيْسْتِ الْعَبْدُ الْيَدِيهِ يَدِيهِ، يَسْأَلُهُ
فِيمَا خَيْرٍ فِي رَدِّهِ مَا خَابَتِينَ لِهِ“

”اللہ رب العزت اس بات سے جیسا کرتے ہیں کہ کوئی سائل ان سے
اپنے دونوں ہاتھ پیلا کر خیر کا طالب ہوا وہ انہیں نامراد لوٹا دیں۔“

نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”مَأْمَنُ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِدُعَوَةٍ لِيْسَ فِيهَا أَشُو
وَلَا قَطِيعَةٌ تَحْمُلُ إِلَّا عَطَاهُ اللَّهُ بِهَا أَحَدًاٍ ثَلَاثَ خَصَالٍ :
إِمَّا أَنْ يَعْجَلَ اللَّهَ دُعَوَتَهُ وَإِمَّا أَنْ يَدْخُرَهَا فِي الْآخِرَةِ ،
وَإِمَّا أَنْ يَصْرُفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا ، قَالُوا أَذْنَتْ نَكْثَرَ ؟
قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ بَلَّهُ“

درجہ بھی کوئی مسلمان اللہ عز وجل سے ایسی دعا کرتا ہے، جس میں کناہ
اور قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو اللہ رب العزت تین بیزوں میں سے ایک ہڑا

لہ اسے احمدؑ نے روایت کیا، اور سلم، البعلیؑ اور حاکمؑ بھی اسی طرح لائے ہیں نیز فرمایا کہ صحیح الاستاد ہے، ویکی
تفصیل این کشیخ اص ۱۶۲، نیز دیکھئے مریاض القالیین، التغیب والترغیب ج ۳ ص ۲۸۹، ۳۴۹، ۳۷۹، ۳۹۲، ۴۱۲، ۴۳۲، ۴۴۲، ۴۵۲، ۴۷۲، ۴۸۲، ۴۹۲، ۵۰۲، ۵۱۲، ۵۲۲، ۵۳۲، ۵۴۲، ۵۵۲، ۵۶۲، ۵۷۲، ۵۸۲، ۵۹۲، ۶۰۲، ۶۱۲، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۴۲، ۶۵۲، ۶۶۲، ۶۷۲، ۶۸۲، ۶۹۲، ۷۰۲، ۷۱۲، ۷۲۲، ۷۳۲، ۷۴۲، ۷۵۲، ۷۶۲، ۷۷۲، ۷۸۲، ۷۹۲، ۸۰۲، ۸۱۲، ۸۲۲، ۸۳۲، ۸۴۲، ۸۵۲، ۸۶۲، ۸۷۲، ۸۸۲، ۸۹۲، ۹۰۲، ۹۱۲، ۹۲۲، ۹۳۲، ۹۴۲، ۹۵۲، ۹۶۲، ۹۷۲، ۹۸۲، ۹۹۲، ۱۰۰۲، ۱۰۱۲، ۱۰۲۲، ۱۰۳۲، ۱۰۴۲، ۱۰۵۲، ۱۰۶۲، ۱۰۷۲، ۱۰۸۲، ۱۰۹۲، ۱۱۰۲، ۱۱۱۲، ۱۱۲۲، ۱۱۳۲، ۱۱۴۲، ۱۱۵۲، ۱۱۶۲، ۱۱۷۲، ۱۱۸۲، ۱۱۹۲، ۱۲۰۲، ۱۲۱۲، ۱۲۲۲، ۱۲۳۲، ۱۲۴۲، ۱۲۵۲، ۱۲۶۲، ۱۲۷۲، ۱۲۸۲، ۱۲۹۲، ۱۳۰۲، ۱۳۱۲، ۱۳۲۲، ۱۳۳۲، ۱۳۴۲، ۱۳۵۲، ۱۳۶۲، ۱۳۷۲، ۱۳۸۲، ۱۳۹۲، ۱۴۰۲، ۱۴۱۲، ۱۴۲۲، ۱۴۳۲، ۱۴۴۲، ۱۴۵۲، ۱۴۶۲، ۱۴۷۲، ۱۴۸۲، ۱۴۹۲، ۱۵۰۲، ۱۵۱۲، ۱۵۲۲، ۱۵۳۲، ۱۵۴۲، ۱۵۵۲، ۱۵۶۲، ۱۵۷۲، ۱۵۸۲، ۱۵۹۲، ۱۶۰۲، ۱۶۱۲، ۱۶۲۲، ۱۶۳۲، ۱۶۴۲، ۱۶۵۲، ۱۶۶۲، ۱۶۷۲، ۱۶۸۲، ۱۶۹۲، ۱۷۰۲، ۱۷۱۲، ۱۷۲۲، ۱۷۳۲، ۱۷۴۲، ۱۷۵۲، ۱۷۶۲، ۱۷۷۲، ۱۷۸۲، ۱۷۹۲، ۱۸۰۲، ۱۸۱۲، ۱۸۲۲، ۱۸۳۲، ۱۸۴۲، ۱۸۵۲، ۱۸۶۲، ۱۸۷۲، ۱۸۸۲، ۱۸۹۲، ۱۹۰۲، ۱۹۱۲، ۱۹۲۲، ۱۹۳۲، ۱۹۴۲، ۱۹۵۲، ۱۹۶۲، ۱۹۷۲، ۱۹۸۲، ۱۹۹۲، ۲۰۰۲، ۲۰۱۲، ۲۰۲۲، ۲۰۳۲، ۲۰۴۲، ۲۰۵۲، ۲۰۶۲، ۲۰۷۲، ۲۰۸۲، ۲۰۹۲، ۲۱۰۲، ۲۱۱۲، ۲۱۲۲، ۲۱۳۲، ۲۱۴۲، ۲۱۵۲، ۲۱۶۲، ۲۱۷۲، ۲۱۸۲، ۲۱۹۲، ۲۲۰۲، ۲۲۱۲، ۲۲۲۲، ۲۲۳۲، ۲۲۴۲، ۲۲۵۲، ۲۲۶۲، ۲۲۷۲، ۲۲۸۲، ۲۲۹۲، ۲۳۰۲، ۲۳۱۲، ۲۳۲۲، ۲۳۳۲، ۲۳۴۲، ۲۳۵۲، ۲۳۶۲، ۲۳۷۲، ۲۳۸۲، ۲۳۹۲، ۲۴۰۲، ۲۴۱۲، ۲۴۲۲، ۲۴۳۲، ۲۴۴۲، ۲۴۵۲، ۲۴۶۲، ۲۴۷۲، ۲۴۸۲، ۲۴۹۲، ۲۵۰۲، ۲۵۱۲، ۲۵۲۲، ۲۵۳۲، ۲۵۴۲، ۲۵۵۲، ۲۵۶۲، ۲۵۷۲، ۲۵۸۲، ۲۵۹۲، ۲۶۰۲، ۲۶۱۲، ۲۶۲۲، ۲۶۳۲، ۲۶۴۲، ۲۶۵۲، ۲۶۶۲، ۲۶۷۲، ۲۶۸۲، ۲۶۹۲، ۲۷۰۲، ۲۷۱۲، ۲۷۲۲، ۲۷۳۲، ۲۷۴۲، ۲۷۵۲، ۲۷۶۲، ۲۷۷۲، ۲۷۸۲، ۲۷۹۲، ۲۸۰۲، ۲۸۱۲، ۲۸۲۲، ۲۸۳۲، ۲۸۴۲، ۲۸۵۲، ۲۸۶۲، ۲۸۷۲، ۲۸۸۲، ۲۸۹۲، ۲۹۰۲، ۲۹۱۲، ۲۹۲۲، ۲۹۳۲، ۲۹۴۲، ۲۹۵۲، ۲۹۶۲، ۲۹۷۲، ۲۹۸۲، ۲۹۹۲، ۳۰۰۲، ۳۰۱۲، ۳۰۲۲، ۳۰۳۲، ۳۰۴۲، ۳۰۵۲، ۳۰۶۲، ۳۰۷۲، ۳۰۸۲، ۳۰۹۲، ۳۱۰۲، ۳۱۱۲، ۳۱۲۲، ۳۱۳۲، ۳۱۴۲، ۳۱۵۲، ۳۱۶۲، ۳۱۷۲، ۳۱۸۲، ۳۱۹۲، ۳۲۰۲، ۳۲۱۲، ۳۲۲۲، ۳۲۳۲، ۳۲۴۲، ۳۲۵۲، ۳۲۶۲، ۳۲۷۲، ۳۲۸۲، ۳۲۹۲، ۳۳۰۲، ۳۳۱۲، ۳۳۲۲، ۳۳۳۲، ۳۳۴۲، ۳۳۵۲، ۳۳۶۲، ۳۳۷۲، ۳۳۸۲، ۳۳۹۲، ۳۴۰۲، ۳۴۱۲، ۳۴۲۲، ۳۴۳۲، ۳۴۴۲، ۳۴۵۲، ۳۴۶۲، ۳۴۷۲، ۳۴۸۲، ۳۴۹۲، ۳۵۰۲، ۳۵۱۲، ۳۵۲۲، ۳۵۳۲، ۳۵۴۲، ۳۵۵۲، ۳۵۶۲، ۳۵۷۲، ۳۵۸۲، ۳۵۹۲، ۳۶۰۲، ۳۶۱۲، ۳۶۲۲، ۳۶۳۲، ۳۶۴۲، ۳۶۵۲، ۳۶۶۲، ۳۶۷۲، ۳۶۸۲، ۳۶۹۲، ۳۷۰۲، ۳۷۱۲، ۳۷۲۲، ۳۷۳۲، ۳۷۴۲، ۳۷۵۲، ۳۷۶۲، ۳۷۷۲، ۳۷۸۲، ۳۷۹۲، ۳۸۰۲، ۳۸۱۲، ۳۸۲۲، ۳۸۳۲، ۳۸۴۲، ۳۸۵۲، ۳۸۶۲، ۳۸۷۲، ۳۸۸۲، ۳۸۹۲، ۳۹۰۲، ۳۹۱۲، ۳۹۲۲، ۳۹۳۲، ۳۹۴۲، ۳۹۵۲، ۳۹۶۲، ۳۹۷۲، ۳۹۸۲، ۳۹۹۲، ۴۰۰۲، ۴۰۱۲، ۴۰۲۲، ۴۰۳۲، ۴۰۴۲، ۴۰۵۲، ۴۰۶۲، ۴۰۷۲، ۴۰۸۲، ۴۰۹۲، ۴۱۰۲، ۴۱۱۲، ۴۱۲۲، ۴۱۳۲، ۴۱۴۲، ۴۱۵۲، ۴۱۶۲، ۴۱۷۲، ۴۱۸۲، ۴۱۹۲، ۴۲۰۲، ۴۲۱۲، ۴۲۲۲، ۴۲۳۲، ۴۲۴۲، ۴۲۵۲، ۴۲۶۲، ۴۲۷۲، ۴۲۸۲، ۴۲۹۲، ۴۳۰۲، ۴۳۱۲، ۴۳۲۲، ۴۳۳۲، ۴۳۴۲، ۴۳۵۲، ۴۳۶۲، ۴۳۷۲، ۴۳۸۲، ۴۳۹۲، ۴۴۰۲، ۴۴۱۲، ۴۴۲۲، ۴۴۳۲، ۴۴۴۲، ۴۴۵۲، ۴۴۶۲، ۴۴۷۲، ۴۴۸۲، ۴۴۹۲، ۴۵۰۲، ۴۵۱۲، ۴۵۲۲، ۴۵۳۲، ۴۵۴۲، ۴۵۵۲، ۴۵۶۲، ۴۵۷۲، ۴۵۸۲، ۴۵۹۲، ۴۶۰۲، ۴۶۱۲، ۴۶۲۲، ۴۶۳۲، ۴۶۴۲، ۴۶۵۲، ۴۶۶۲، ۴۶۷۲، ۴۶۸۲، ۴۶۹۲، ۴۷۰۲، ۴۷۱۲، ۴۷۲۲، ۴۷۳۲، ۴۷۴۲، ۴۷۵۲، ۴۷۶۲، ۴۷۷۲، ۴۷۸۲، ۴۷۹۲، ۴۸۰۲، ۴۸۱۲، ۴۸۲۲، ۴۸۳۲، ۴۸۴۲، ۴۸۵۲، ۴۸۶۲، ۴۸۷۲، ۴۸۸۲، ۴۸۹۲، ۴۹۰۲، ۴۹۱۲، ۴۹۲۲، ۴۹۳۲، ۴۹۴۲، ۴۹۵۲، ۴۹۶۲، ۴۹۷۲، ۴۹۸۲، ۴۹۹۲، ۵۰۰۲، ۵۰۱۲، ۵۰۲۲، ۵۰۳۲، ۵۰۴۲، ۵۰۵۲، ۵۰۶۲، ۵۰۷۲، ۵۰۸۲، ۵۰۹۲، ۵۱۰۲، ۵۱۱۲، ۵۱۲۲، ۵۱۳۲، ۵۱۴۲، ۵۱۵۲، ۵۱۶۲، ۵۱۷۲، ۵۱۸۲، ۵۱۹۲، ۵۲۰۲، ۵۲۱۲، ۵۲۲۲، ۵۲۳۲، ۵۲۴۲، ۵۲۵۲، ۵۲۶۲، ۵۲۷۲، ۵۲۸۲، ۵۲۹۲، ۵۳۰۲، ۵۳۱۲، ۵۳۲۲، ۵۳۳۲، ۵۳۴۲، ۵۳۵۲، ۵۳۶۲، ۵۳۷۲، ۵۳۸۲، ۵۳۹۲، ۵۴۰۲، ۵۴۱۲، ۵۴۲۲، ۵۴۳۲، ۵۴۴۲، ۵۴۵۲، ۵۴۶۲، ۵۴۷۲، ۵۴۸۲، ۵۴۹۲، ۵۵۰۲، ۵۵۱۲، ۵۵۲۲، ۵۵۳۲، ۵۵۴۲، ۵۵۵۲، ۵۵۶۲، ۵۵۷۲، ۵۵۸۲، ۵۵۹۲، ۵۶۰۲، ۵۶۱۲، ۵۶۲۲، ۵۶۳۲، ۵۶۴۲، ۵۶۵۲، ۵۶۶۲، ۵۶۷۲، ۵۶۸۲، ۵۶۹۲، ۵۷۰۲، ۵۷۱۲، ۵۷۲۲، ۵۷۳۲، ۵۷۴۲، ۵۷۵۲، ۵۷۶۲، ۵۷۷۲، ۵۷۸۲، ۵۷۹۲، ۵۸۰۲، ۵۸۱۲، ۵۸۲۲، ۵۸۳۲، ۵۸۴۲، ۵۸۵۲، ۵۸۶۲، ۵۸۷۲، ۵۸۸۲، ۵۸۹۲، ۵۹۰۲، ۵۹۱۲، ۵۹۲۲، ۵۹۳۲، ۵۹۴۲، ۵۹۵۲، ۵۹۶۲، ۵۹۷۲، ۵۹۸۲، ۵۹۹۲، ۶۰۰۲، ۶۰۱۲، ۶۰۲۲، ۶۰۳۲، ۶۰۴۲، ۶۰۵۲، ۶۰۶۲، ۶۰۷۲، ۶۰۸۲، ۶۰۹۲، ۶۱۰۲، ۶۱۱۲، ۶۱۲۲، ۶۱۳۲، ۶۱۴۲، ۶۱۵۲، ۶۱۶۲، ۶۱۷۲، ۶۱۸۲، ۶۱۹۲، ۶۲۰۲، ۶۲۱۲، ۶۲۲۲، ۶۲۳۲، ۶۲۴۲، ۶۲۵۲، ۶۲۶۲، ۶۲۷۲، ۶۲۸۲، ۶۲۹۲، ۶۳۰۲، ۶۳۱۲، ۶۳۲۲، ۶۳۳۲، ۶۳۴۲، ۶۳۵۲، ۶۳۶۲، ۶۳۷۲، ۶۳۸۲، ۶۳۹۲، ۶۴۰۲، ۶۴۱۲، ۶۴۲۲، ۶۴۳۲، ۶۴۴۲، ۶۴۵۲، ۶۴۶۲، ۶۴۷۲، ۶۴۸۲، ۶۴۹۲، ۶۵۰۲، ۶۵۱۲، ۶۵۲۲، ۶۵۳۲، ۶۵۴۲، ۶۵۵۲، ۶۵۶۲، ۶۵۷۲، ۶۵۸۲، ۶۵۹۲، ۶۶۰۲، ۶۶۱۲، ۶۶۲۲، ۶۶۳۲، ۶۶۴۲، ۶۶۵۲، ۶۶۶۲، ۶۶۷۲، ۶۶۸۲، ۶۶۹۲، ۶۷۰۲، ۶۷۱۲، ۶۷۲۲، ۶۷۳۲، ۶۷۴۲، ۶۷۵۲، ۶۷۶۲، ۶۷۷۲، ۶۷۸۲، ۶۷۹۲، ۶۸۰۲، ۶۸۱۲، ۶۸۲۲، ۶۸۳۲، ۶۸۴۲، ۶۸۵۲، ۶۸۶۲، ۶۸۷۲، ۶۸۸۲، ۶۸۹۲، ۶۹۰۲، ۶۹۱۲، ۶۹۲۲، ۶۹۳۲، ۶۹۴۲، ۶۹۵۲، ۶۹۶۲، ۶۹۷۲، ۶۹۸۲، ۶۹۹۲، ۷۰۰۲، ۷۰۱۲، ۷۰۲۲، ۷۰۳۲، ۷۰۴۲، ۷۰۵۲، ۷۰۶۲، ۷۰۷۲، ۷۰۸۲، ۷۰۹۲، ۷۱۰۲، ۷۱۱۲، ۷۱۲۲، ۷۱۳۲، ۷۱۴۲، ۷۱۵۲، ۷۱۶۲، ۷۱۷۲، ۷۱۸۲، ۷۱۹۲، ۷۲۰۲، ۷۲۱۲، ۷۲۲۲، ۷۲۳۲، ۷۲۴۲، ۷۲۵۲، ۷۲۶۲، ۷۲۷۲، ۷۲۸۲، ۷۲۹۲، ۷۳۰۲، ۷۳۱۲، ۷۳۲۲، ۷۳۳۲، ۷۳۴۲، ۷۳۵۲، ۷۳۶۲، ۷۳۷۲، ۷۳۸۲، ۷۳۹۲، ۷۴۰۲، ۷۴۱۲، ۷۴۲۲، ۷۴۳۲، ۷۴۴۲، ۷۴۵۲، ۷۴۶۲، ۷۴۷۲، ۷۴۸۲، ۷۴۹۲، ۷۵۰۲، ۷۵۱۲، ۷۵۲۲، ۷۵۳۲، ۷۵۴۲، ۷۵۵۲، ۷۵۶۲، ۷۵۷۲، ۷۵۸۲، ۷۵۹۲، ۷۶۰۲، ۷۶۱۲، ۷۶۲۲، ۷۶۳۲، ۷۶۴۲، ۷۶۵۲، ۷۶۶۲، ۷۶۷۲، ۷۶۸۲، ۷۶۹۲، ۷۷۰۲، ۷۷۱۲، ۷۷۲۲، ۷۷۳۲، ۷۷۴۲، ۷۷۵۲، ۷۷۶۲، ۷۷۷۲، ۷۷۸۲، ۷۷۹۲، ۷۸۰۲، ۷۸۱۲، ۷۸۲۲، ۷۸۳۲، ۷۸۴۲، ۷۸۵۲، ۷۸۶۲، ۷۸۷۲، ۷۸۸۲، ۷۸۹۲، ۷۹۰۲، ۷۹۱۲، ۷۹۲۲، ۷۹۳۲، ۷۹۴۲، ۷۹۵۲، ۷۹۶۲، ۷۹۷۲، ۷۹۸۲، ۷۹۹۲، ۸۰۰۲، ۸۰۱۲، ۸۰۲۲، ۸۰۳۲، ۸۰۴۲، ۸۰۵۲، ۸۰۶۲، ۸۰۷۲، ۸۰۸۲، ۸۰۹۲، ۸۱۰۲، ۸۱۱۲، ۸۱۲۲، ۸۱۳۲، ۸۱۴۲، ۸۱۵۲، ۸۱۶۲، ۸۱۷۲، ۸۱۸۲، ۸۱۹۲، ۸۲۰۲، ۸۲۱۲، ۸۲۲۲، ۸۲۳۲، ۸۲۴۲، ۸۲۵۲، ۸۲۶۲، ۸۲۷۲، ۸۲۸۲، ۸۲۹۲، ۸۳۰۲، ۸۳۱۲، ۸۳۲۲، ۸۳۳۲، ۸۳۴۲، ۸۳۵۲، ۸۳۶۲، ۸۳۷۲، ۸۳۸۲، ۸۳۹۲، ۸۴۰۲، ۸۴۱۲، ۸۴۲۲، ۸۴۳۲، ۸۴۴۲، ۸۴۵۲، ۸۴۶۲، ۸۴۷۲، ۸۴۸۲، ۸۴۹۲، ۸۵۰۲، ۸۵۱۲، ۸۵۲۲، ۸۵۳۲، ۸۵۴۲، ۸۵۵۲، ۸۵۶۲، ۸۵۷۲، ۸۵۸۲، ۸۵۹۲، ۸۶۰۲، ۸۶۱۲، ۸۶۲۲، ۸۶۳۲، ۸۶۴۲، ۸۶۵۲، ۸۶۶۲، ۸۶۷۲، ۸۶۸۲، ۸۶۹۲، ۸۷۰۲، ۸۷۱۲، ۸۷۲۲، ۸۷۳۲، ۸۷۴۲، ۸۷۵۲، ۸۷۶۲، ۸۷۷۲، ۸۷۸۲، ۸۷۹۲، ۸۸۰۲، ۸۸۱۲، ۸۸۲۲، ۸۸۳۲، ۸۸۴۲، ۸۸۵۲، ۸۸۶۲، ۸۸۷۲، ۸۸۸۲، ۸۸۹۲، ۸۹۰۲، ۸۹۱۲، ۸۹۲۲، ۸۹۳۲، ۸۹۴۲، ۸۹۵۲، ۸۹۶۲، ۸۹۷۲، ۸۹۸۲، ۸۹۹۲، ۹۰۰۲، ۹۰۱۲، ۹۰۲۲، ۹۰۳۲، ۹۰۴۲، ۹۰۵۲، ۹۰۶۲، ۹۰۷۲، ۹۰۸۲، ۹۰۹۲، ۹۱۰۲، ۹۱۱۲، ۹۱۲۲، ۹۱۳۲، ۹۱۴۲، ۹۱۵۲، ۹۱۶۲، ۹۱۷۲، ۹۱۸۲، ۹۱۹۲، ۹۲۰۲، ۹۲۱۲، ۹۲۲۲، ۹۲۳۲، ۹۲۴۲، ۹۲۵۲، ۹۲۶۲، ۹۲۷۲، ۹۲۸۲، ۹۲۹۲، ۹۳۰۲، ۹۳۱۲، ۹۳۲۲، ۹۳۳۲، ۹۳۴۲، ۹۳۵۲، ۹۳۶۲، ۹۳۷۲، ۹۳۸۲، ۹۳۹۲، ۹۴۰۲، ۹۴۱۲، ۹۴۲۲، ۹۴۳۲، ۹۴۴۲، ۹۴۵۲، ۹۴۶۲، ۹۴۷۲، ۹۴۸۲، ۹۴۹۲، ۹۵۰۲، ۹۵۱۲، ۹۵۲۲، ۹۵۳۲، ۹۵۴۲، ۹۵۵۲، ۹۵۶۲، ۹۵۷۲، ۹۵۸۲، ۹۵۹۲، ۹۶۰۲، ۹۶۱۲، ۹۶۲۲، ۹۶۳۲، ۹۶۴۲، ۹۶۵۲، ۹۶۶۲، ۹۶۷۲، ۹۶۸۲، ۹۶۹۲، ۹۷۰۲، ۹۷۱۲، ۹۷۲۲، ۹۷۳۲، ۹۷۴۲، ۹۷۵۲، ۹۷۶۲، ۹۷۷۲، ۹۷۸۲، ۹۷۹۲، ۹۸۰۲، ۹۸۱۲، ۹۸۲۲، ۹۸۳۲، ۹۸۴۲، ۹۸۵۲، ۹۸۶۲، ۹۸۷۲، ۹۸۸۲، ۹۸۹۲، ۹۹۰۲، ۹۹۱۲، ۹۹۲۲، ۹۹۳۲، ۹۹۴۲، ۹۹۵۲، ۹۹۶۲، ۹۹۷۲، ۹۹۸۲، ۹۹۹۲، ۱۰۰۰۲، ۱۰۰۱۲، ۱۰۰۲۲، ۱۰۰۳۲، ۱۰۰۴۲، ۱۰۰۵۲، ۱۰۰۶۲، ۱۰۰۷۲، ۱۰۰۸۲، ۱۰۰۹۲، ۱۰۰۱۰۲، ۱۰۰۱۱۲، ۱۰۰۱۲۲، ۱۰۰۱۳۲، ۱۰۰۱۴۲، ۱۰۰۱۵۲، ۱۰۰۱۶۲، ۱۰۰۱۷۲، ۱۰۰۱۸۲، ۱۰۰۱۹۲، ۱۰۰۲۰۲، ۱۰۰۲۱۲، ۱۰۰۲۲۲، ۱۰۰۲۳۲، ۱۰۰۲۴۲، ۱۰۰۲۵۲، ۱۰۰۲۶۲، ۱۰۰۲۷۲، ۱۰۰۲۸۲، ۱۰۰۲۹۲، ۱۰۰۳۰۲، ۱۰۰۳۱۲، ۱۰۰۳۲۲، ۱۰۰۳۳۲، ۱۰۰۳۴۲، ۱۰۰۳۵۲، ۱۰۰۳۶۲، ۱۰۰۳۷۲، ۱۰۰۳۸۲، ۱۰۰۳۹۲، ۱۰۰۴۰۲، ۱۰۰۴۱۲، ۱۰۰۴۲۲، ۱۰۰۴۳۲، ۱۰۰۴۴۲، ۱۰۰۴۵۲، ۱۰۰۴۶۲، ۱۰۰۴۷۲، ۱۰۰۴۸۲، ۱۰۰۴۹۲، ۱۰۰۵۰۲، ۱۰۰۵۱۲، ۱۰۰۵۲۲، ۱۰۰۵۳۲، ۱۰۰۵۴۲، ۱۰۰۵۵۲، ۱۰۰۵۶۲، ۱۰۰۵۷۲، ۱۰۰۵۸۲، ۱۰۰۵۹۲، ۱۰۰۶۰۲، ۱۰۰۶۱۲، ۱۰۰۶۲۲، ۱۰۰۶۳۲، ۱۰۰۶۴۲، ۱۰۰۶۵۲، ۱۰۰۶۶۲، ۱۰۰۶۷۲، ۱۰۰۶۸۲، ۱۰۰۶۹۲، ۱۰۰۷۰۲، ۱۰۰۷۱۲، ۱۰۰۷۲۲، ۱۰۰۷۳۲، ۱۰۰۷۴۲، ۱۰۰۷۵۲، ۱۰۰۷۶۲، ۱۰۰۷۷۲، ۱۰۰۷۸۲، ۱۰۰۷۹۲، ۱۰۰۸۰۲، ۱۰۰۸۱۲، ۱۰۰۸۲۲، ۱۰۰۸۳۲، ۱۰۰۸۴۲، ۱۰۰۸۵۲، ۱۰۰۸۶۲، ۱۰۰۸۷۲، ۱۰۰۸۸۲، ۱۰۰۸۹۲، ۱۰۰۹۰۲، ۱۰۰۹۱۲، ۱۰۰۹۲۲، ۱۰۰۹۳۲، ۱۰۰۹۴۲، ۱۰۰۹۵۲، ۱۰۰۹۶۲، ۱۰۰۹۷۲، ۱۰۰۹۸۲، ۱۰۰۹۹۲، ۱۰۰۱۰۰۲، ۱۰۰۱۰۱۲، ۱۰۰۱۰۲۲، ۱۰۰۱۰۳۲، ۱۰۰۱۰۴۲، ۱۰۰۱۰۵۲، ۱۰۰۱۰۶

ہی اسے عطا فرمادیتے ہیں : یا تو اس کی دعاء کو جلد قبول فرمائیتے ہیں، یا اس دعاء کو برداشت کرنے والے کی آخرت، کے لیے ذمہ کر دیتے ہیں رعنی رذیقیامت، اسے اس کا اجر ملے گا) اور یا پھر اس دعاء کے عوض (انگلی جانے والی بصلاتی کے شش) اس سے تکلیف کو دفعہ فرمادیتے ہیں — صاحبہ کرامؒ نے یمن کفر فرمایا، "اللہ کے رسولؐ پھر قبیلہ بہبعت دعا کیا کیں؟" آپؐ نے ارشاد فرمایا، "اللہ سب سے عطا فرمانے والا ہے!

دعاء کی قبولیت کی خرافت یہ ہیں گہ : دعاء کرنے والے کو اپنی دعاء کی قبولیت کا یقین ہو۔ دعاء کرنے والا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو لازم پڑھے، معاصی سے محبت نہ رہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس پر حکم کیا ہے اس کا مرکب نہ ہو — دعاء کرتے وقت حنور قلب سے دعاء کرے اور اللہ تعالیٰ سے توجہ بٹا کر کسی دسرے خیال میں مشغول نہ ہو — ارشاد رسالت، آب صلی اللہ علیہ وسلم ہے :

"ادْعُوا مَلَكَهُ وَأَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ بِالْحَاجَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَا يَعْلَمُ"

اللہ رب العزت سے یوں دعاء کیا کرو کہ تمہیں اپنی دعاء کی قبولیت کا یقین ہو — جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعاء کو قبول نہیں فرماتے! پھر انہیم دوسلی علیہم السلام، نیز پمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپؐ کے اصحاب کرامؒ اور سلف صالحین کی دعاؤں کی قبولیت کے بے شمار واقعات صحابہ سنن نبی محمدؐ کی کتب میں ذکر ہوئے ہیں (دیکھئے کتب سیرت، کتب تفسیر کے الواب ابو فودا و المذاقب) — بخجلہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ :

"أَتَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْرَذَاتٍ لِيَلَةَ بَعْدِ الْهِجْرَةِ وَالسَّيْدَةُ عَالِيَّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى جَنْبَهِ فَقَالَتْ: مَا شَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَلْتَ رِجَلًا صَالِحًا مَنْ أَصْحَابَنِي يَحْرُسْنِي الْيَلَةَ، قَالَتْ: فِيمَا أَنْأَيْتَهُ ذَلِكَ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتَ السَّلَامِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَنَا سَعْيَهُ بْنُ مَالِكٍ! فَقَالَ: مَا جَاءَ بِدُوقَ؟ قَالَ: جُثْتَ لِأَحْرِسْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ نَسِعْتَ غَطْيَطَ رَسُولَ

اللہ نے تو مہے۔ ” (بخاری و مسلم — دیکھیے مختصر تفسیر ابن کثیر ص ۵۲۳) ” رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیرت کے بعد ایک رات اچانک جاگے، اس وقت سیدہ عائشہؓ آپؐ کے تربیب موجود تھیں، آپؐ نے پوچھا: اللہ کے رسولؐ کیا معاملہ ہے؟ آپؐ نے فرمایا، کاش آج رات میرے اصحاب میں سے کوئی نیک مرد بیاں پڑھہ دیتا۔ آپؐ فرماتی ہیں، اسی دوران میں نے ہتھیار کی آہست سنی۔ آپؐ نے پوچھا، کون؟ کسی نے جواب دیا، میں سعد بن مالک ہوں۔ آپؐ نے استفسار فرمایا، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ سعدؓ نے کہا، اللہ کے رسولؐ، میں آپؐ کے ہاں پڑھہ دینے آیا ہوں۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں، اس کے بعد رمیں نے دیکھا، آپؐ انہتائی پر سکون نیند سور ہے تھے، حتیٰ اک) میں نے نیند میں آپؐ کے خراٹے سنے؟“ (جاری ہے)

شعر و ادب

عبد الرحمن عاجز مالیہ کوٹلوی

لعت

سیدؐ کو نین جس دم عازم پرواز تھا
آپؐ کے حسن تھا طلب میں وہ سوز و ساز تھا
رفتہ رفتہ پھول کھلتے ہیں جن میں جس طرح
قیہ و کسری کے ابوالوں میں آئے زلزلے
آپؐ کی دعوت کاملہ میں ابھی آغاز تھا
اللہ اللہ آپؐ کی صورت میں گیا اسماز تھا
قتل کی نیت سے جو آیا مسلمان ہو گیا
رحمۃ اللعالمین تھے اور ختم المرسلین
آپؐ کا لیا وصف تھا، کیا آپؐ کا اعزاز تھا
یہ بھی آنحضرت کی سچائی کی بے عاجز دلیل
ہر بشر کے قول سے قول آپؐ کا ممتاز تھا